

# دجال کی حقیقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں امت کی اصلاح کے لئے ایک منج اور مہدی کے ظہور کی پیشگوئی فرمائی اور اس کے ظہور کی علامات میں سے ایک ضروری علامت دجال کا ظہور بیان فرمائی۔ دجال کے متعلق عوام الناس میں عجیب و غریب قسم کی کہانیاں مشہور ہیں اور وہ اسے عجیب الخلق تغیر معمولی قوتوں اور طاقتیں کا حامل فرد قرار دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دجال کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہ آپ کے رؤیا اور مکاشفات پر مشتمل ہیں جیسا کہ دجال کا ذکر کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

بَيْنَمَا آنَا نَائِمٌ أَطْوُفُ بِالْكَعْبَةِ (بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال)

یعنی میں نے سوتے ہوئے خواب میں کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔

رؤیا، مکاشفات اور پیشگوئیوں سے متعلق یہ مسلمہ اصول ہے کہ اکثر ویژت تعبیر طلب ہوتی ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں گیارہ ستاروں، چاند اور سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا تو اس سے مراد ظاہری سورج اور چاند ستارے نہ تھے بلکہ ان کے بھائیوں اور والدین کا زیر احسان ہو کر ان کے پاس آنا تھا۔

اسی طرح مسلم کتاب الفتن باب ذکر ابن صیاد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک یہودی لڑکے ابن صیاد (جو بعد میں مسلمان ہو گیا) پر دجال ہونے کا شہر کیا اور حضرت عمرؓ نے آپ کے سامنے اس بات پر قسم کھائی کہ یہی دجال ہے اور آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی۔ حالانکہ ظاہرًا ابن صیاد میں دجال کی اکثر علامات بالکل مفقود تھیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ یہی دجال کے متعلق پیشگوئیوں کو مجازی رنگ میں سمجھتے تھے اور تمام علامات کا ظاہری اور جسمانی طور پر پایا جانا ہرگز ضروری نہ سمجھتے تھے۔

قرآن کریم، احادیث نبویہ اور دجال کے لغوی معنوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال سے مراد کوئی عجیب الخلق تفریبیں بلکہ آج کی ترقی یافتہ مغربی عیسائی اقوام کے مذہبی راہنماءیں۔ چند لائل پیش ہیں:-

## ۱۔ دجال کے لغوی معنی

- (i)۔ کذاب یعنی سخت جھوٹا۔
  - (ii)۔ مالدار اور خزانوں والا۔
  - (iii)۔ بڑا گروہ جوانی کثرت سے زیمن کوڈھانپ لے۔
  - (iv)۔ ایسا گروہ جو اموال تجارت اٹھائے پھرے۔ (السان العرب)
- گویا دجال کے لغوی معنی یہ بنے کہ ایک کثیر تعداد جماعت جو تاجر پیشہ ہوا اور اپنا تجارتی سامان دنیا میں لئے پھرے جو نہایت مالدار اور خزانوں والی ہو اور جو تمام دنیا کو اپنی سیروں سے قطع کر رہی ہو اور ہر جگہ پہنچ ہوئی ہو گویا کوئی بگدا سے خالی نہ رہی ہو۔ اور مذہب اور ایک نہایت ہی جھوٹی عقیدہ پر قائم ہوا اور یہ تمام علامات مغربی ممالک کی مسیحی اقوام کے مذہبی راہنماءیں میں موجود ہیں۔

## دجال اور قرآن کریم و احادیث نبویہ

۲۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنہ سے بچنے کے لئے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کا ارشاد فرمایا اور سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات میں مسیحیت کا رد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا:-

وَ يُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا أَتَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (الکھف: ۵)

یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لئے نازل کی ہے کہ اس کے ذریعہ ان کوڈھایا جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا۔

پس دجال کا فتنہ اور مسیح کا فتنہ ایک ہی شے ہے کیونکہ علاج بیماری کے مطابق ہوتا ہے اگر دجال فتنہ مسیحی فتنہ سے علیحدہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکیم انسان دجال سے بچنے کے لئے ایسی آیات پڑھنے کا حکم دیتا جن میں اس کا ذکر تک نہیں۔

۳۔ حدیث میں دجال کے فتنہ کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ (مسلم کتاب الفتن باب فی بقیة احادیث الدجال)

قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے خطرناک فتنہ یہ ہے کہ مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:-

قربیب ہے کہ تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ کر گرجائیں اور زمین کٹکٹے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر جا پڑیں۔ **أَنْ دَعُوا إِلَّرَحْمَنِ وَلَدًا**  
(مریم: ۹۲) کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کا بیٹا قرار دیا ہے۔

اور اس خطرناک فتنے کے باñی مبانی عیسائی پادری ہی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور وہی دجال ہیں۔

۴۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو فتنوں سے بچنے کی دعا سکھلائی ہے۔

(ا) مغضوب علیہم کا فتنہ جس سے مراد یہود ہیں۔

(ب)۔ الضالین کا فتنہ جس سے مراد عیسائی ہیں۔

یہود کو دجال قرانہیں دیا جاسکتا کیونکہ ان کے بارہ میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے **صُرِبَثُ عَلَيْهِمُ الدِّلْلَةُ أَيْنَ مَا ثُقُفُوا** (آل عمران: ۱۱۳) یعنی جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں ان پر ذلت نازل کی گئی ہے۔ گویا یہود ہمیشہ مغلوب رہیں گے لیکن قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح اور مهدی کے زمانہ میں عیسائیت کا غالب ہو گا۔

پس معلوم ہوا کہ دجال سے مراد عیسائی پادری ہی ہیں اور اگر اس سے مراد کوئی اور فرد یا قوم ہوتی تو سورہ فاتحہ میں ضرور اس سے بچنے کی دعا سکھلائی جاتی۔

۵۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانے والوں کے غلبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

**وَ جَاءِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ** (آل عمران: ۵۶)

ترجمہ:- (اے عیسیٰ) جو تیرے پیرو ہیں ان لوگوں پر جو مکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔

اس آیت کے مطابق غلبہ اور سلطنت قیامت تک یا عیسائیوں کے لئے مقدر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے رسی قیمع ہیں یا مسلمانوں کے لئے جو آپ کے حقیقی قیمع ہیں۔ مسلمانوں کو دجال قرانہیں دیا جاسکتا کیونکہ حدیث میں دجال کو کافر کہا گیا ہے لہذا حضرت عیسیٰ کے رسی قیمع عیسائیوں ہی کو دجال قرار دیا جاسکتا ہے جن کے غلبہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔

۶۔ مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داریؓ نے دجال کو ایک مغربی جزیرہ کے گرجے میں مقید دیکھا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال سے مراد مغربی عیسائی قومیں ہیں۔

## علامات دجال

(ا)۔ بخاری کتاب الانبیاء باب واذ کرنی الکتاب مریم میں ہے کہ ”دجال دائیں آنکھ سے کانا ہو گا“

پھر فرمایا

”اس کی بائیں آنکھ بہت چھکتی ہوئی گویا کہ وہ ایک موتی ہے۔“

(کنز العمال جلد ۱۳) باب فی خروج الدجال حدیث ۸۲۷-۸۳۷ مکتبۃ التراث حلب)

اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بائیں آنکھ لیعنی دنیا کی آنکھ بہت تیز ہو گی اور دنیوی معاملات میں بڑی گہری نظر رکھے گا لیکن دائیں آنکھ سے انہا لیعنی دین سے بے بہرہ ہو گا۔

۲۔ ”اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک۔ف۔ رکھا ہو گا جسے پڑھا ہوا اور ان پڑھ دنوں پڑھ سکیں گے،“ (صحیح بخاری۔ کتاب الفتن باب ذکر الدجال)  
یعنی اس کا کفر ظاہر و باہر ہو گا۔

۳۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو ظاہری حلیہ کے لحاظ سے ایک تونمندو جوان، چڑھے سینے والا، سفید رنگ روشن پیشانی والا دیکھا  
(مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۱۵ کتاب الفتن ماذکرنی فتنۃ الدجال)

مغربی اقوام کے بھی خدوخال ہیں جن کے نمائندہ کے طور پر آپ کو ایک شخص دکھایا گیا۔

۳۔ مسلم کتاب الفتن باب فی بقیة قصة الدجال میں ہے کہ ”اصفہان کے ۲۰ ہزار یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے“

آج یہودی مسیحی اقوام کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔

۵۔ فرمایا دجال روئیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ساتھ لے کر چلے گا۔ اور بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلے گا۔ اور ہر طرف فتنہ و فساد اور بتاہی پھیلائے گا اور جسے چاہے گا قتل کرے گا اور جسے چاہے گا زندہ کرے گا اس کے حکم پر بارش بھی بر سے گی اور زمین کھلتی گائے گی اور اپنے نہزادے کا نکال باہر کرے گی۔ (مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال) اس حدیث کے ظاہری معنوں کی رو سے دجال کو خدا یا خدائی طاقتیں رکھنے والی ہستی ماننا پڑتا ہے جو اسلام کے بنیادی عقیدہ تو حید کے خلاف ہے پس اس حدیث کا یہ مطلب لئے بغیر چارہ نہیں کہ دجال اپنی خصوصیات اور کارکروں سے خدا کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور کوشش کرے گا کہ بارش برسانا، بارش بند کرنا، پانی بکثرت پیدا کرنا اور خشک کرنا تمام نظام طبعی پر اسے تصرف حاصل ہو جائے روئیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہر ساتھ ہونے میں ایک قوانین طاقتور مغربی قوموں کے کل دنیا پر اقتصادی اور معاشری اقتدار اور غلبہ کا ذکر ہے۔ دوسری طرف اس کی ایجاد کردہ سواریوں، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بھری جہاز کی طرف اشارہ ہے جن میں دوران سفر خوراک وغیرہ کے جملہ سامان مہیا ہوتے ہیں۔

۶۔ اس کے ساتھ جنت بھی ہو گی اور آگ بھی اور جسے وہ جنت کہے گا وہ حقیقتاً آگ ہو گی۔ (بخاری کتاب الانبیاء باب قول اللہ ولقد ارسلنا نوح)

اس کے بھی ظاہری معنی قبول کرنے محال اور خلاف تو حید ہیں یہی وجہ ہے کہ شارح بخاری علامہ ابن حجر نے اس کی تشریح کی ہے کہ:-

دجال انعام و اکرام اور سزا پر قادر ہو گا جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر انعام و اکرام کرے گا کو یادہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا لیکن حقیقتاً اخروی کاظم سے یہ جہنم ہو گی اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی دنیا جہنم بنا دے گا مگر ایسے لوگ اخروی جنت کے وارث ہوں گے۔ (فتح الباری شرح بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال) یہ صفات بھی آج عیسائی اقوام میں بد رجاء م موجود ہیں۔

۷۔ دجال کے دونوں کانوں میں سے ہر ایک کی لمبائی تیس (۳۰) ہاتھ ہو گی۔ (کنز العمال۔ کتاب القيمة من قسم الافعال باب الدجال حدیث ۳۹۷۰۹)

یعنی دجال ایسی ایجادات کرے گا جس سے پیغام رسانی کا کام آسان ہو جائے گا۔ جیسے ٹیلیفون، فیلمس، ای میل وغیرہ۔ اور یہ ایجادات مغربی اقوام کی ہی ہیں۔

۸۔ مسح موعود دجال کو باب لد کے پاس قتل کرے گا۔ (مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال)

لد کے معنی یہیں بحث کرنے والے جھگڑے نے والے افراد۔

فرمایا تُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا (مریم: ۹۸) یعنی قرآن اس لئے آیا ہے کہ تو اس کے ذریعہ بحث کرنے والی قوم کو انذار کرے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسح موعود دجال عقائد بالطلہ کو علمی و عقلی دلائل سے توڑے گا اور اس پر فتح حاصل کرے گا چنانچہ حضرت بانی جماعت احمد یہ نے عیسائیت کے خلاف ایسے روشن دلائل پیش فرمائے کہ اس کی بنیادیں ہل گئیں۔

۹۔ دجال مسح موعود کو دیکھ کر نمک کی طرح گھلتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مسح کے ذریعہ دجال کو ہلاک کرے گا۔

(مسلم کتاب الفتن باب فی فتح قسطنطینیہ و خروج الدجال و نزول عیسیٰ ابن مریم)

دجال مشرق سے نکلے گا اور وہ زمانہ اختلاف اور فرقہ بندی کا ہو گا اور دجال کا غلبہ چالیس دن رہے گا (یعنی اسے کامل غلبہ حاصل ہو گا) موسیٰ نخت تیگی محسوس کریں گے تب حضرت عیسیٰ تشریف لا کر لوگوں کی امامت کرائیں گے اور جو نبی وہ رکوع سے سرا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کر دے گا اور مسلمان غالب آ جائیں گے۔

(مجموع ازدواج و مناسع الغوانہ جلد سے صفحہ ۳۲۹۔ مکتبۃ القدنی القاہرہ ۱۳۵۳ھ)

ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسح موعود اور اس کی جماعت کو دجال کے مقابل پر غلبہ عبادات اور دعاوں کے نتیجہ میں حاصل ہو گا۔

۱۰۔ دجال خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔

(بخاری کتاب الانبیاء باب واذکر فی الکتب مریم)

اس حدیث کی تشریح میں علامہ تور بشقی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت بنی اکرم کی رؤیا اور مکاشفات میں سے ہے اور حضرت عیسیٰ کے خانہ کعبہ کے گرد طواف کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی اصلاح اور اسے قائم کرنے کے لئے دین کے گرد طواف کریں گے اور دجال دین میں فساد اور کنجی پیدا کرنے کے لئے دین کے گرد چکر لگائے گا۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۹ صفحہ ۲۱۱ کتاب الفتن باب علامات میں یہی الساعة)

اسی شرح مشکوٰۃ میں مولوی عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے بھی دجال کے خانہ کعبہ کے طواف سے مراد یہ لیا ہے کہ دجال خانہ کعبہ کی ویرانی اور بتاہی کے درپے ہو گا۔

(مظاہر الحلقہ شرح مشکوٰہ جلد ۲ کتاب الحقن باب علامۃ بنی یہودی الساعۃ وذکر الدجال)  
یہ علامت بھی مغربی عیسائی اقوام اور ان کے پادریوں میں بدرجہ اتم موجود ہے کیونکہ وہ اسلام پر اعتراض کرنے اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

## خرد جال کی علامات

دجال ایک ایسے گدھے پر سوار ہو گا جو روشن ہو گا اس کے دونوں کانوں کے درمیان ست گز کا فاصلہ ہو گا۔

(مکملۃ المصالح کتاب الادب باب العلامات وذکر الدجال)

دجال کے گدھے کے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کا فاصلہ ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو گا اور وہ ساری زمین کا سفر کرے گا۔ وہ بادلوں کو پکڑنے پر قادر ہو گا اور سورج کے غروب ہونے کی جانب سفر کرتے ہوئے سورج سے بھی آگے نکل جائے گا۔ وہ سمندر میں چلے گا اور سمندر کا پانی اس کے ٹھنڈوں تک ہو گا۔ جب وہ سفر کرے گا تو بلند آواز سے یہ اعلان کرے گا اے میرے دوستو میری طرف آ جاؤ۔ اے میرے پیارو میری طرف آ جاؤ۔

(کنز العمال کتاب القيمة من قسم الافعال باب الدجال۔ حدیث ۳۹۷۶)

ان سواریوں میں سوراخ یعنی دروازے بھی ہوں گے اور زینیں یعنی نشیشیں بھی ہوں گی۔

(بحار الانوار جلد ۵۲ صفحہ ۱۹۲ از امام محمد باقر مجلسی دارالحیاء التراث العربي لبنان)

ان احادیث میں دجالی قوموں کی حیرت انکیز ایجادات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایسی تیز رفتار سواریاں ایجاد کریں گی جن میں لا یئش گلی ہوں گی جن پر بیٹھنے کے لئے نشیشیں ہوں گی وہ سواریاں زمین پر بھی چلیں گی یعنی ریل گاڑیاں اور موڑیں وغیرہ اور فضا میں بھی اڑیں گی یعنی ہوائی جہاز اور سمندر میں بھی چلیں گی یعنی بحری جہاز اور گدھے کے دو کانوں کے درمیان فاصلے سے یہ مراد ہے کہ یہ تو میں ایسی ایجادات کریں گی جس سے پیغام رسانی کا کام بہت ہی کم وقت میں سرانجام دیا جاسکے گا جیسے ٹیلیفون، انٹر کام وغیرہ اور پیغام رسانی کی یہ سہولتیں دجال کی ایجاد کردہ سواریوں میں بھی موجود ہوں گی اور عملًا ایسا ہی ہو رہا ہے۔

چنانچہ بعض علماء نے دجال کے گدھے سے مراد میل گاڑی لی ہے۔

(حدیث مہدویہ صفحہ ۸۹، ۹۰ مطعنہ کانپور ۱۳۹۳ھ)

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو علامات بیان فرمائیں تھیں وہ آج لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہیں اور اگر دجال ظاہر ہو چکا ہے تو مسیح موعود کا ظہور بھی ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح موعود کا بھی ظہور ہو چکا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کی تباہ کاریوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس موعود کو بچانا جائے۔